

95. Dajudaju otitọ ti o han ni eyi.

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿١٥﴾

96. Nigbana še afomọ orukọ Oluwa rẹ ti O tobi.

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾

(57) *Suratul - Hadīd*



*Ni orukọ Qlọhun Ajọkẹ aiye,
Aşakẹ ọrun.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Gbogbo nkan ti o wa ni sanma ati ilẹ nşe afomọ fun Qlọhun, Alagbara, Qlọgbọn ni On.

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٧﴾

2. Ijọba sanma ati ilẹ ti Rẹ ni. O nfun nkan ni ẹmi O si npa a, On lo ni agbara lori gbogbo nkan.

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُّحْيِي وَيُمِيتُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨﴾

3. On ni Ẹni-akọkọ On si ni Ẹniigbẹhin, On ni O han, On na sini O sunmọ On ni O mọ gbogbo nkan.

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٠﴾

4. On ni Ẹniti O še ẹda sanma ati ilẹ ni ojọ mẹfa, lẹhinna O şe pẹtẹpẹtẹ si ori Al'araşi (ni ọna ti o tọ si I). O mọ ohun ti o nwọ inu ilẹ lọ ati ohun ti o njade lati inu rẹ, ati ohun ti o sọkalẹ lati sanma ati ohun ti ngunke lọ ba a. Atipe On wa pẹlu nyin nibikibi ti ẹ ba wa. Qlọhun ri nkan ti ẹ nşe.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ
وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١﴾

5. Ijọba sanma ati ilẹ ti Rẹ ni atipe ọdọ Qlọhun ni a o da gbogbo nkan pada si.

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

6. O nfi oru wọ inu ọsan, O si nfi ọsan wọ inu oru, atipe On lo mọ ohun ti o wa ni awọn igbaiya.

7. Ẹ gba Ọlọhun gbọ ni ododo ati Ojiṣe Rẹ, ẹ na ninu ohun ti O fi nyin ṣe arole rẹ. Nitorina awọn ti o gbagbọ ni ododo ninu nyin ti nwon si nnawó (si oju ọna Ọlọhun), ẹsan ti o tobi wa fun wọn.

8. Kini kò jẹ ki ẹ gba Ọlọhun gbọ ni ododo atipe Ojiṣe na npe nyin lati pe ki ẹ gba Oluwa nyin ni ododo, dajudaju O ti gba adehun nyin, ti ẹ ba jẹ olugbagbọ ododo.

9. On ni Ẹniti O nsọ awọn āyah ti o han kalẹ fun ẹrusin Rẹ ki O le yọ nyin jade ninu okunkun lọ sinu imọlẹ atipe dajudaju Ọlọhun ni Ọlọpọ-ānù, Onikẹ fun nyin.

10. Kini kò jẹ ki ẹ ma nawo nyin si oju ọna Ọlọhun? Atipe Ọlọhun ni yio jogun sanma ati ilẹ. Awọn ti o nawo wọn ṣaju ki ẹ to ṣi (Makkah pẹlu iṣẹgun), ti nwon tun ja (ogun), nwon kò le dọgba larin nyin, awọn elewọnyi ni nwon tobi ni ipo ju awọn ti nwon nawo lẹhin iṣẹgun ti nwon tun ja. Atipe ọkọkan (ninu ijo mejèji) ni Ọlọhun ṣe adehun ẹsan rere (fun). Atipe Ọlọhun ni Alamọtan nkan ti ẹ nṣe.

11. Tani yio ya Ọlọhun ni owó ni yiya ti o dara ti On yio san ilọpo

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ وَأَنِفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ؕ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا
هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا
بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

هُوَ الَّذِي يُزِيلُ عَلَى عَبْدِهِ ؕ ءَايَاتٍ يَبَيِّنُ لِيُخْرِجَكُم
مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ
لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٩﴾

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمٰوٰتِ
وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقُنْدَلٌ أَوْ لَيْتِكُمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا
مِّنْ بَعْدُ وَقَتَلُوا ؕ وَلَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُنٰفِقِيْنَ
وَأَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنًا فَضِعْفَهُ لَهُ ؕ

rè fun u, ti yio tun fun u ni ɛsan alapõnle.

12. Ni ojo ti ireş yio ri awõn onigbagbo ododo ɔkunrin ati awõn onigbagbo ododo obirin ti imõlè wõn yio ma tan niwaju wõn ati ni ɔwɔ-otun wõn (a o sope): iro-idunnu wa fun nyin loni: Ọgba-idera ti awõn odo nşan nisalè rè, ibè ni nwõn o şe gberè si, eyi jè ere ti o tobi.

13. Ni ojo na awõn alagabagebe ɔkunrin ati awõn alagabagebe obirin yio sɔ fun awõn ti o gbagbo ni ododo pe: È duro, è jeki a tan ninu imõlè nyin. A o sope: È pada sşhin ki è wa imõlè kan (funra nyin). Nigbana a o fi ogiri kan si arin wõn ti yio ni ilèkun, ikè ni inu rè, atipe ode rè iyà ni.

14. Nwõn yio kigbe pè wõn pe: Şebi awa wà pèlu nyin. Nwõn yio sope: Bèni, şugbõn ɛnyin è ko iyõnu ba ara nyin, è nreti, è nşè iyemeji, ireti asan si tan nyin jè titi aşè Ọlõhun fi de, atannijè tan nyin jè nipa Ọlõhun.

15. Loni yi a ki yio gba paşiparò lɔwɔ nyin bèni a kò ni gba lɔwɔ awõn alaigbagbo. Ina ni ibugbe nyin, on ni o tɔ si nyin, o buru ni ibupadasi.

وَالَّذِينَ أُجْرِبُوا

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
وَبِأَنْفُسِهِمْ يَشْرَتُكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا
انظرونا نقبَسَ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ
فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ
الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

يُنَادُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ
أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانُ
حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَعَزَّكَمُ بِاللَّهِ الْعُرُورُ

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

16. Njẹ kò ha to akoko fun awon eniti nwon gbagbo lododo ki awon okan won ro fun iranti Qlòhun ati ohun ti o sòkalè ni ododo ati ki nwon maṣe jẹ gẹgẹ bi awon eniti a ti fun ni Tirà ṣiwaju, ti igba na si gùn gbọrọ le won lori toṣe gẹ ti awon okan won fi le koko atipe oṣoṣo ninu won ni obilejẹ.

17. Ki ẹ mọ amọdaju pe Qlòhun ni O nji ilẹ lèhin igbati o ti ku. Dajudaju A ti ṣe alaye awon àmi na fun nyin ki ẹ le ba lo lakaye.

18. Dajudaju awon olutọre lókunrin ati awon olutọre lobirin ti nwon ya Qlòhun ni owo ni yiya ti o dara, a o di adipele re fun won atipe ti won ni ẹsan ti o ni aponle.

19. Atipe awon eniti nwon ni igbagbo ododo si Qlòhun ati si awon ojise Re, awon elewonni ni olododo ati ẹleri loḍo Oluwa won. Tiwon ni ẹsan ise won ati imole won. Atipe awon eniti nwon se aigbagbo ti nwon si pe awon àmi Wa nirọ awon elewonni ni ero ina Jahimi.

20. Ki ẹ mọ amọdaju pe igbesi aiye yi jẹ ere ati awada ati oṣo ati ise iyanran ni arin ara nyin ati iwa nini si, ninu owo ati awon omọ. (Gbogbo re) da gẹgẹbi ẹṣu ojo ti irugbin re ko idunnu ba agbe,

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكثيرٌ منهم فسقون ﴿١٦﴾

أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدِينًا لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

إِنَّ الْمَصْدِفِينَ وَالْمَصْدِفَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّاهِدَةُ عِنْدَهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْغَنِيُّ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُ وَرِزْقَةٌ وَفَخَارَ بَيْنَكُمْ وَتَكَارَفُوا فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ بِنَائِهِ ثُمَّ يَسِيحُ فَرَدْنَةً

lɛhinna ti o tun rɔ, iwɔ yio si ri i pe
o pɔn lɛhinna yio di ohun ti o run.
Atipe iyà ti o le mbɛ ni ɔrun ati
aforiji lati ɔdɔ Ɔlɔhun ati iyɔnu
(Rɛ). Nitorina igbesi aiye kò jẹ
kinikan ju igbadun itanjẹ lɔ.

21. Ẹ mǎ sare ije lɔ sibi aforiji
lati ɔdɔ Oluwa nyin ati ɔgba-idɛra
ti fifẹ rẹ to sanma ati ilẹ, ti a ti pa
lese silẹ de awon ɛniti o gba
Ɔlɔhun gbɔ lododo ati awon ojise
Rẹ. Eyi ni ore ajulo Ɔlɔhun A ma
fifun ɛniti O ba fẹ atipe Ɔlɔhun ni
Olõre ajulo ti o tobi.

22. Adanwo kan kò ni şelẹ ni ori
ilẹ tabi ninu ara nyin ayafi ki o mǎ
bẹ ninu Tirà kan şiwaju ki A to mu
u jade, dajudaju eyi jẹ irorun fun
Ɔlɔhun.

23. Nitori ki ẹ ba ma banujẹ lori
ohun ti o ti bọ fun nyin atiki ẹ ma
si yọ ayọju nitori ohun ti O fun
nyin atipe Ɔlɔhun na kò ni ifẹ si
gbogbo onigberaga, oniyaran.

24. Awon ɛniti nwon nşe ahun ti
nwon si nkɔ awon enia ni ahun.
Atipe ɛnikeni ti o ba pa ɛhinda
nitorina dajudaju Ɔlɔhun na ni
Ɔlorò, Ẹniti ope tọ si.

25. Dajudaju Awa ti ran awon
ojise Wa pelu awon alaye atipe A
şo Tirà kalẹ pelu won ati iwon ki
awon enia le ba duro pelu ẹto. A si

مُضْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿٥٧﴾

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ
ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٧﴾

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا
إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٥٧﴾

لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
ءَاتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٥٧﴾

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٥٧﴾

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

nyo irin (Hadīdi) jade (lati inu ilè) ohun ijagun ti o le koko mbẹ ninu rẹ ati ohun ti o nşe anfani fun awon enia, ati ki Olòhun le ba mo ẹniti yio ran ẹsin Rẹ lówọ ati awon ojise Rẹ, ni kòkò. Dajudaju Olòhun na je Alagbara, Olubori.

26. Atipe dajudaju A ti ran (Annabi) Nuha ati Ibrahimia, A si se ije Annabi sinu aromodomọ awon mejiji ati Tirà pelu tobẹ ti olumona mbẹ ninu won, be si ni opolopo ninu won si je obileje.

27. Lehinna A fi opolopo awon ojise Wa tele oripa won, A si mu Isa omọ Mariyama tele won A si fun u ni Tirà Injila. A si se anu ati ike sinu okan awon ẹniti o tele tirẹ. Ati pe asa ki a ma ni iyawo je ohun ti nwon da silẹ. A kò se e ni oranyan fun won, bikobaşe lati fi wa iyonu Olòhun, sibesibe nwon kò so o bi o ti to ki nwon so o. Nitorina A fun awon ẹniti nwon gbagbo lododo ninu won ni ẹsan won, şugbon opolopo ninu won je obileje.

28. Enyin ẹniti e gbagbo lododo, e beru Olòhun ki e si gba Ojise Rẹ gbọ, ki O le ba fun nyin ni ilopo meji ninu ike Rẹ ki O si se imole kan fun nyin ti e o ma fi rin, ki O si se aforiji fun nyin atipe Olòhun ni Alaforiji, Onike.

وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٦﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَرَعَلَنَا فِي دُرَيْهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهُتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٧﴾

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَيْنَ الَّذِينَ أَبَدَعُوا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا آيَاتِنَا رِضْوَانًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَمِنْهُمْ جَرَاهُ فَتَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿٥٨﴾

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفَقُوا اللَّهَ وَءَامَنُوا بِرُسُلِهِ يُؤْتِيكُم مَّا تَكْتُمُونَ مِنَ الرِّحْمَةِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَعْرِفْ لَكُمْ ءَالَهُ عَفْوَ رَحِيمٌ ﴿٥٩﴾

29. Nitori ki awɔn oni-tirà le mɔ pe awɔn kò ni agbara lori kinikan ninu òreajulɔ Qlɔhun, atipe ɔla na wa ni ɔwɔ Qlɔhun. A ma fifun ɛniti O ba fɛ atipe Qlɔhun ni Olòre ajulɔ ti o tobi.

(58) *Suratul Mujādalah*

*Ni orukɔ Qlɔhun Ajɔkɛ aipe,
Aɣakɛ ɔrun.*

1. Dajudaju Qlɔhun ti gbɔ ɔrɔ (obirin) eyiti on ba ɛ ɛ ariyanjiyan nipa ɔkɔ rɛ o si nke ibosi lɔ si ɔdɔ Qlɔhun; atipe Qlɔhun si ngbɔ tamiorɔmi ɛnyin mejɛji. Dajudaju Qlɔhun ni Olugbɔrɔ, Ariran

2. Awɔn ɛniti nwɔn fi ɛhin (iyawo wɔn) we ti iya wɔn ninu nyin, nwɔn ki iɛe iya wɔn, kò si ɛniti o jɛ iya wɔn ju eyiti o bi wɔn lɔ, dajudaju nwɔn sɔ ohun ti ɔkàn kò ninu ɔrɔ ati irɔ atipe dajudaju Qlɔhun jɛ Alamojukuro, Alaforiji.

3. Atipe awɔn ɛniti nwɔn fi ɛhin awɔn iyawo wɔn we ti iya wɔn, lɛhinna ti nwɔn wa nfe ɛeri nipa ohun ti nwɔn ti sɔ, nigbana nwɔn yio sɔ ɛru kan di ominira ɛiwaju ki nwɔn to le fowokan ara wɔn. Awɔnyi ni a ɛe kilɔkilɔ nipa rɛ fun yin, Qlɔhun jɛ ɛniti O mɔ nipa ohun ti ɛnyin nse niɛe.

إِنَّمَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ
عَلَى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٥٨﴾



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي
إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ مَخَاوِرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ
سَمِيعٌ نَصِيرٌ ﴿٥٩﴾

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّن نَّبَأَتْ بَهُمْ مَا هِيَ
أُمَّهَتُهُمْ إِنَّمَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ أَلَا أَلَيْسَ لَدُنْهُمُ
وَأَلَيْسَ لِقَوْلِهِمْ قَوْلٌ مِّنْ لَّدُنْهُمْ قَوْلٌ مِّنْ لَّدُنْهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُوفٌ ﴿٦٠﴾

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مَّن نَّبَأَتْ بَهُمْ مَا هِيَ
أُمَّهَاتُهُمْ قَوْلٌ مِّنْ لَّدُنْهُمْ قَوْلٌ مِّنْ لَّدُنْهُمْ
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ عَفُوفٌ ﴿٦١﴾